

Psa

Chapter 34

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	לְדָוִד داؤد کا	אֶת- -اُس کے- بدلنے- میں	בְּשׁוֹתָיו -اُس کے- بدلنے- میں	אֶת- -اُس کے- بدلنے- میں	טַעֲמוֹ اپنی- عقل	לִפְנֵי -سامنے	אֲבִימֶלֶךְ ابیملک- کے	אֲיִנְיָ اور- اُس نے- نکالا- اُسے	וַיִּגְלֶה: اور- چلا- گیا
	H1732	H0853	H0853	H0853	H2940	H6440	H0040	H1644	H1980
	אֲבָרְכָה میں- برکت- دوں- گا	אֶת- -کو	יְהוָה یہوواہ	בְּכָל- -ہر	עֵת وقت	אֲמִיד بمیشہ	תְּהַלֵּל اُس- کی- حمد	בְּפִי: -میرے- منہ- میں	
	H1288	H0853	H3068	H3605	H6256	H8548	H8416	H6310	

چلے دیا۔ بھگا اُسے نے بادشاہ کر دیکھ یہ لیا۔ بھر روپ کا بننے پاگل سامنے کے مَلِک ابی بادشاہ فلسطی نے اُس جب بے متعلق سے وقت اُس زبور یہ کا داؤد گی۔ رہے پر بوئوں میرے ہی ہمیشہ ثنا و حمد کی اُس گا، کروں تمجید کی رب میں وقت ہر گایا۔ گیت یہ نے داؤد بعد کے جانے

2	בֵּיתוֹ -یہوواہ- میں	תְּהַלֵּל فخر- کرے- گی	נַפְשִׁי میری- جان	יִשְׁמְעוּ سُنیں- گے	עֲנִי حلیم	וְיִשְׁמְחוּ: اور- خوشی- منائیں- گے
	H3068	H0853	H5315	H8085	H6035	H8055

جائیں۔ ہو خوش کر سن یہ زدہ مصیبت گی۔ کرے فخر پر رب جان میری

3	בְּזָאתִי بڑائی- کرو	לִיהוָה -یہوواہ- کو	אֵתִי میرے- ساتھ	וּנְרוֹמְמָהּ اور- بلند- کریں	שְׁמוֹ اُس- کے- نام	יְהוָה: مل- کر
	H1431	H3068	H0854	H8034		

کریں۔ سربلند نام کا اُس کر مل ہم اؤ، کرو۔ تعظیم کی رب ساتھ میرے اؤ،

4	דִּרְשָׁתִי میں- نے- ڈھونڈا	אֶת- -کو	יְהוָה یہوواہ	וְאֶת- اور- اُس نے- جواب- دیا- مجھے	וְעַנִּי اور- سب- سے	מְנוֹרוֹתַי میرے- خوفوں	הַצִּילָנִי: اُس نے- بچایا- مجھے
	H1875	H0853	H3068	H3605	H4034	H5337	

دی۔ ربائی مجھے نے اُس سے سب اُن تھا ربا کھا دہشت میں سے چیزوں جن سنی۔ میری نے اُس تو کیا تلاش کو رب نے میں

5	הִבִּישׁוּ دیکھا- اُنہوں نے	אֶת- -اُس کی- طرف	אֶלָּיו اور- چمک- اُٹھے	וְנָהָרוּ اور- اُن- کے- چہرے	אֶל- نہ	יְחַפְּרוּ: شرمندہ- ہوئے
	H5027	H0413	H6440	H4048	H2659	

گے۔ ہوں نہیں شرمندہ منہ کے اُن اور گے، چمکیں سے خوشی وہ رہیں لگی پر اُس آنکھیں کی جن

6	יָהּ یہ	עֲנִי مسکین	קָרָא پکارا	וְיִהְיֶה اور- یہوواہ	שְׁמִעַ سُنا	וּמְכַל- اور- سب- سے	צָרוֹתָיו اُس کی- مصیبتوں	הוֹשִׁיעֵנו: اُس نے- بچایا- اُسے
	H2088	H6041	H7121	H3068	H8085	H3605	H3467	

دی۔ نجات سے مصیبتوں تمام کی اُس اُسے نے اُس سنی، کی اُس نے رب تو پکارا نے ناچار اس

7	חֲנֹה خیمہ- لگاتا- ہے	מַלְאָךְ- فرشتہ	יְהוָה یہوواہ- کا	חָבִיב -چاروں- طرف	לִירְאֵיו -اُس سے- ڈرنے- والوں- کے	וַיַּחֲלֹצֵם: اور- چھڑاتا- ہے- اُنہیں
	H2583	H4397	H3068	H5439	H3373	

ہے۔ رکھتا بجائے کو اُن کر ہو زن خیمہ فرشتہ کا اُس گرد ارد کے اُن مانیں خوف کا رب جو

8	טַעֲמוֹ چکھو	וְרָאוּ اور- دیکھو	כִּי- کیونکہ	טוֹב اچھا- ہے	יְהוָה یہوواہ	אֲשֶׁרִי مبارک	הַנְּבֵר -آدمی	יְחַסֶּה- پناہ- لیتا- ہے	בּוֹ: -اُس- میں
	H2938	H7200			H3068	H0835	H1397	H2620	

لے۔ پناہ میں اُس جو وہ بے مبارک کرو۔ تجربہ کا بھلائی کی رب

9	יְרֵאוּ	אֶת-	יְהוָה	קְדָשׁוֹ	כִּי-	אֵין	מִחֹסֶר	לִירְאוֹ:
	ڈرو	-سے	یہوواہ	اے-اُس-کے-مقدسو	کیونکہ	نہیں	کمی	-اُس-سے-ڈرنے-والوں-کے-لیے
	H3372	H0853	H3068	H6918	H0369	H4270	H3373	

نہیں۔ کمی اُنہیں مانیں خوف کا اُس جو کیونکہ مانو، خوف کا اُس مُقدّسین، کے رب اے

10	כְּפִירִים	רָשׁוּ	וְרַעְבוּ	וְדָרְשׁוּ	יְהוָה	לֹא-	יַחְסְרוּ	כָּל-
	جوان-شیر	تنگ-ہوتے-ہیں	اور-بھوکے-ہوتے-ہیں	اور-ڈھونڈنے-والے	یہوواہ-کے	نہیں	محتاج-ہوں-گے	کسی
	H7326	H7456	H1875	H3068	H3808	H2637	H3605	

טוב:
بھلائی-کے

گی۔ ہو نہیں کمی کی چیز اچھی بھی کسی کو طالبوں کے رب لیکن ہیں، ہوتے بھوکے اور مند ضرورت کبھی شیربیر جوان

11	לִכְנֹ-	בָּנִים	שָׁמְעוּ-	לִי	יְרֵאת	יְהוָה	אֶלְמֶדְכֶם:
	اُو	بجو	سُنو	-مجھے	خوف	یہوواہ-کا	میں-تمہیں-سکھاؤں-کا
	H3212	H8085	H3374	H3068	H3925		

گا۔ دوں تعلیم کی خوف کے رب تمہیں مَیں سنو! باتیں میری اُو، بجو، اے

12	מִי-	הָאִישׁ	הַחַיִּץ	חַיִּים	אֶהֱב	יָמִים	לְרֵאוֹת	טוב:
	کون	-آدمی-ہے	خواہش-رکھنے-والا	زندگی	محبت-کرنے-والا	دنوں-کو	-دیکھنے-کے-لیے	بھلائی
	H4310	H0376	H2655	H0157	H3117	H7200		

ہے؟ چاہتا دیکھنا دن اچھے اور گزارنا زندگی سے مزے کون

13	נָצַר	לְשׁוֹנָה	מִרְע	וְשִׁפְתָיָהּ	מִדְבַר	מִרְמָה:
	روک	اپنی-زبان	-بُرائی-سے	اور-اپنے-ہونٹ	بولنے-سے	فریب
	H5341	H3956	H8193	H1696	H4820	

سے۔ بولنے جھوٹ کو ہونٹوں اپنے اور روکے سے کرنے باتیں شریر کو زبان اپنی وہ

14	סֹר	מִרְע	וַעֲשֵׂה-	טוב	בְּקֶשׁ	נְשָׂאֵם	וְרַדְפָּהוּ:
	ہٹ	-بُرائی-سے	اور-کر	بھلائی	ڈھونڈ	سلامتی	اور-اُس-کا-پیچھا-کر
	H5493	H1245	H7965	H7291			

رے۔ لگا پیچھے کے اُس کر ہو طالب کا سلامتی صلح کرے، کام نیک کر پھیر منہ سے بُرائی وہ

15	עֵינַי	יְהוָה	אֶל-	צְדִיקִים	אֶזְנוֹי	אֶל-	שׁוֹעֲתָם:
	آنکھیں	یہوواہ-کی	-کی-طرف	راستبازوں-کی	اور-اُس-کے-کان	-کی-طرف	اُن-کی-فریاد-کے
	H3068	H0413	H6662	H0241	H0413	H7775	

ہیں۔ مائل طرف کی التجاؤں کی اُن کان کے اُس اور ہیں، ربتی لگی پر بازوں راست آنکھیں کی رب

16	פָּנַי	יְהוָה	כַּעֲשֵׂי	רַע	לְהַכְרִית	מֵאַרְץ	זְכָרָם:
	چہرہ	یہوواہ-کا	-کرنے-والوں-کے-خلاف	بُرائی	-کانے-کے-لیے	-زمین-سے	اُن-کی-بیاد
	H6440	H3068	H3772	H0776	H2143		

گا۔ رے نہیں تک نشان و نام پر زمین کا اُن ہیں۔ کرتے کام غلط جو بے خلاف کے اُن چہرہ کا رب لیکن

17	צָעֲקוּ	יְהוָה	נְשָׂא	וּמְכַל-	צָרוֹתָם	הַצִּילָם:
	فریاد-کی-اُنہوں-نے	اور-یہوواہ	سُنا	اور-سب-سے	اُن-کی-مصیبتوں	اُنہیں-بچایا
	H6817	H3068	H8085	H3605	H5337	

ہے۔ دیتا چھٹکارا سے مصیبت تمام کی اُن اُنہیں وہ سنتا، کی اُن رب تو کریں فریاد باز راست جب

18 קָרוֹב יְהוָה לְנִשְׁבָּרִי- לֵב וְאֶת- רֵגְלֵי יוֹשִׁיעַ: קریب ہے یہوواہ ٹوٹے-دلوں-کے دل اور-کو کچلی-ہوئی روح بچاتا-ہے
[H7138](#) [H3068](#) [H7665](#) [H0853](#) [H7307](#) [H3467](#)

بو-گیا کچلا میں خاک کو روح کی جن بے دیتا ربائی انہیں وہ ہے، ہوتا قریب کے دلوں شکستہ رب

19 רַבּוֹת רַעוֹת צָרִיק וּמְכַלֵּם יִצְיָלוּ יְהוָה: بہت مصیبتیں راستباز-کی اور-ان-سب-سے بچاتا-ہے-اُسے یہوواہ
[H6662](#) [H3605](#) [H5337](#) [H3068](#)

ہے-لیتا بچا سے سب ان اُسے رب لیکن ہیں، ہوتی تکالیف متعدد کی باز راست

20 שָׁמֵר כָּל- עֲצֻמוֹתָיו אֶחָת לֹא נִשְׁבָּרָה: حفاظت-کرنے-والا سب اُس-کی-ہڈیوں ایک-بھی -ان-میں-سے نہیں ٹوٹی-گی
[H8104](#) [H3605](#) [H6106](#) [H0259](#) [H2007](#) [H3808](#) [H7665](#)

گی-جائے توڑی نہیں بھی ایک ہے، کرتا حفاظت کی ہڈیوں تمام کی اُس وہ

21 תְּמוֹתַת רָשָׁע רַעָה וְשִׁנְאֵי צָרִיק יֹאשְׁמוּ: مار-دے-گی شریر-کو بُرائی اور-بغض-رکھنے-والے راستباز-سے مجرم-ٹھہریں-گے
[H4191](#) [H7563](#) [H8130](#) [H6662](#) [H0816](#)

گا-ملے اجر مناسب اُسے کرے نفرت سے باز راست جو اور گی، ڈالے مار کو بے دین بُرائی

22 הוֹרָה יְהוָה נִפְשׁ עֲבָדָיו וְלֹא יֹאשְׁמוּ כָּל- הַחַסִּים בּוֹ: جھڑانے-والا یہوواہ جان اپنے-بندوں-کی اور-نہیں مجرم-ٹھہریں-گے سب پناہ-لینے-والے -اُس-میں
[H6299](#) [H3068](#) [H5315](#) [H5650](#) [H3808](#) [H0816](#) [H3605](#) [H2620](#)

گی-ملے نہیں سزا اُسے لے پناہ میں اُس بھی جو گا۔ دے فدیہ کا جان کی خادموں اپنے رب لیکن